

# کامیاب مستقبل پرسکون زندگی فیماں تکافل کے ساتھ



تفصیلات کے لیے Telenor کے صارفین 3737 ڈائل کریں  
دوسرے نیٹ ورک کے صارفین 042-111-003-737 ڈائل کریں  
www.easypaisa.com.pk

ای ایف یولائف ونڈو تکافل سے  
رابطہ کے لیے 111-338-436 پر ڈائل کریں  
ای ایف یولائف ہاؤس، پلاٹ نمبر 8th.112  
ایسٹ سٹریٹ، فیزا، ڈی ایچ اے، کراچی



کامیاب مستقبل پلان ایک تکافل پروڈکٹ ہے، جس کا اجراء اور شرائط و ضوابط ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریشنز نے ترتیب دیے ہیں۔ پاکستان میں ونڈو تکافل کا پرنسپل آفس ای ایف یولائف ہاؤس، پلاٹ نمبر 8th.112 ایسٹ سٹریٹ فیزا، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان واقع ہے۔ ٹیلی نارمانیکرو فنانس بینک لمیٹڈ نے ای ایف یولائف کے کارپوریٹ تکافل ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ٹرم تکافل پلان صرف پروڈکٹ کا نام ہے، جو کسی بھی طور پر پروڈکٹ کے معیار کو ظاہر نہیں کرتا۔ ٹیلی نارمانیکرو فنانس بینک لمیٹڈ صرف ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریشنز کی جانب سے تکافل پلان کے تقسیم کنندہ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بحیثیت تکافل آپریٹری ای ایف یولائف پالیسی دستاویزات، اس کی قیمتوں کے تعین، خطرے کا اندازہ، پالیسی کے تحت متعلقہ دستاویزات اور کلیم/ واجبات کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔

پالیسی کے تحت ٹیلی نارمانیکرو فنانس بینک لمیٹڈ کلیم یا واجبات سے متعلق کسی بھی معاملے میں ذمہ دار نہیں ہے۔ ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریشنز کی جانب سے آپ کی درخواست یا کلیم مسترد ہو جانے کی صورت میں بینک کلیم سے متعلق تحقیقات یا حق دعویٰ سے متعلق کوئی رائے فراہم نہیں کرے گا۔

اس تکافل پلان کا لون پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔

نام (Name)	
قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC)	□□□□□□-□□□□□□-□□
موبائل نمبر (Mobile Number)	
تاریخ (Date)	
اداشدہ کٹریبیوٹن (Contribution Paid)	
یونٹس کی تعداد (Number of Units)	

میں اس بات کی تائید کرتا ہوں/ کرتی ہوں کہ یہ تکافل پلان مع اسکی حدود کے، میں نے اسے پڑھ لیا ہے اور میں نے اسے سمجھ لیا ہے اور اس بات پر رضامند ہوں کہ یہ فارم اس گروپ پالیسی کے تحت، فیملی تکافل کی بنیاد بنے گا۔ میں کسی بھی فریڈیشن، نرس یا ہسپتال کے عملے کو اختیار دیتا ہوں/ دیتی ہوں کہ وہ میری سابقہ طبی کیفیات کے متعلق کوئی بھی یا مکمل معلومات ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریشنز کو ظاہر کر دے۔

میں ٹیلی نارمانیکرو فنانس بینک کو بھی اختیار دیتا ہوں/ دیتی ہوں کہ کٹریبیوٹن کی ادائیگی، جب بھی واجب الادا ہو، میرے بینک اکاؤنٹ سے، ای ایف یولائف ونڈو تکافل آپریشنز تک پہنچنے کے لئے میرے اکاؤنٹ سے نکال لے۔

تاریخ: \_\_\_\_\_

درخواست کنندہ کے دستخط: \_\_\_\_\_

## صرف براؤنچ کے استعمال کے لئے

میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ درج بالا تفصیلات جو درخواست کنندہ نے فراہم کی ہیں، ان کی تفصیل سے تصدیق کی گئی ہے اور میرے علم کے مطابق ان کو درست پایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ، درخواست کنندہ جسمانی طور پر صحت مند ہے اور اس پالیسی کے اجراء کئے جانے کا اہل ہے۔

بینک کے نمائندے کا نام: \_\_\_\_\_

تاریخ: \_\_\_\_\_

دستخط اور مہر: \_\_\_\_\_

براؤنچ کوڈ: \_\_\_\_\_

وقت پڑنے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں

زندگی ایک چیلنج ہے جس میں اکثر غیر متوقع صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر بہت سے خطرات میں گھرے ہوتے ہیں، ان انجانے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اور ہمارے خاندان کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ اچانک رونما ہونے والا حادثہ (قدرتی یا حادثاتی موت) مرنے والے کے خاندان کو ناسرگرم سوگوار کر دیتا ہے بلکہ انہیں مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

ٹیلی نارماتیکر و فنانس بینک لمیٹڈ کامیاب مستقبل پلان پیش کرتے ہیں جو ای ایف یو لائف و ونڈو تکافل آپریشنز کی پروڈکٹ ہے اور شریعہ اصولوں کے مطابق حل فراہم کرتا ہے۔ اس پلان میں ہم نے آپ کی گنجائش اور کوریج کی رقم کی ادائیگی میں سہولت کا خیال رکھا ہے۔ یہ منفرد پلان کسٹمر کے انتقال کی صورت میں اس کے خاندان کو مالی تحفظ فراہم کرتا ہے۔

ای ایف یو لائف و ونڈو تکافل اور اس کے آپریشنز

ای ایف یو لائف و ونڈو تکافل آپریشنز بھر پور توجہ کے ساتھ شریعہ تکافل کو ان کے مالی مسائل کا باکفایت اور شرعی حل فراہم کر رہا ہے۔ تکافل پروڈکٹ، ای ایف یو لائف و ونڈو تکافل آپریشنز کے تحت چلنے والے وقف فنڈ کے ذریعے اجتماعی بھلائی، اخوت، باہمی اشتراک اور دلچسپی کی بدولت آپ کو درپیش نقصان ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔

پلان کے فوائد کیا ہیں؟

کامیاب مستقبل پلان شریعہ تکافل کو مختلف یونٹس میں درج ذیل فوائد اور زر تکافل کا انتخاب پیش کرتا ہے:

یونٹ	سالانہ زر تکافل	موت کی صورت میں ملنے والی رقم
یونٹ 1	500	100,000
یونٹ 2	1,000	200,000

تمام رقم پاکستانی روپیہ میں ہے

اسی طرح شریعہ تکافل زیادہ سے زیادہ 10 یونٹس تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی 5,000 روپے پر زیادہ سے زیادہ 1,000,000 روپے کی کوریج حاصل کر سکتے ہیں۔

اہلیت کا معیار

عمر کی حد: 18 سے 64 سال

کوریج کی عمر: 18 سے 65 سال

کوریج: قدرتی یا حادثاتی موت

منسوخی کا حق: شراکت کے 30 دن کے اندر پلان کے شرائط و ضوابط کا جائزہ لینے کے بعد کوریج کو منسوخ کروایا جاسکتا ہے

رعایتی مدت: پالیسی کی تجدید کے لیے رعایتی مدت 30 دن ہے۔ اسکییم دستاویز کی شرائط کے مطابق اس دوران کیا جانے والا کلیم قابل ادائیگی ہوگا

پالیسی لیے جانے کے 30 دن کے اندر ہونے والی قدرتی موت پر کوریج لاگو نہیں ہوگی

خاص شرائط

کوئی کلیم بھی واجب الادا نہیں ہوگا، اگر وفات براہ راست یا بلا واسطہ ہوتی ہے، مکمل طور پر یا جزوی طور پر، جس کا تعلق:

الف) خودکشی سے یا از خود کوئی ضرب لگانے سے

ب) اس پالیسی کے آغاز سے تین دن کے اندر، نیچرل ڈیٹھ کی صورت میں کئے جانے والا کلیم

یہ سبسکرائب کیسے ہوگا

اگر آپ ایک ایزی پیسہ کسٹمر ہیں تو سروسز سے فائدہ اٹھانے کے لئے 3737 ڈائل کریں۔ اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں۔  
لکھیں: Paytill <2566> <رقم> <mpin> 0345-1113737 پر SMS کریں

مثال: Paytill 2566 500 12345

کلیم کا طریقہ

ٹیلی نارماتیکر و فنانس بینک لمیٹڈ کے کسٹرز کی جانب سے موصول ہونے والے تمام کلیمز ای ایف یو لائف و ونڈو تکافل آپریشنز دیکھے گا۔ کسی بھی جھنجھٹ سے بچنے کے لیے سروس ٹیلی نارماتیکر و فنانس بینک لمیٹڈ کے شرائط و ضوابط کے اندر ہوگی۔ تمام کلیمز پر عملدرآمد مقررہ وقت پر ہوگا۔ برائے مہربانی کلیم کے لیے فوری طور پر کلیم ہیپ لائن "3737" پر رابطہ کریں۔

ڈیٹھ کلیم کی صورت میں ای ایف یو لائف و ونڈو تکافل آپریشنز کو درج ذیل دستاویزات فراہم کرنی ہوں گی:

نادرا یا یونین کونسل کی طرف سے جاری کردہ "ڈیٹھ سرٹیفکیٹ" کی نقل

انتقال کرنے والے اور کلیم کرنے والے فرد کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول

کلیم کرنے والوں کا بیان

وراشت سرٹیفکیٹ اور اصل سرپرست سرٹیفکیٹ (وارث کے کم عمر ہونے کی صورت میں)

کلیم کی جانچ کے دوران دیگر دستاویزات بھی درکار ہوں گی

پروڈکٹ کی خصوصیات، سروس اور کلیم سے متعلق معلومات کے لیے درج ذیل پتہ پر رابطہ کریں:

ای ایف یو لائف و ونڈو تکافل آپریشنز

رابطہ نمبر: 111-EFU-HEM (111-338-436)

ای میل: gbd@efuhemayahtakaful.com

پتہ: ای ایف یو لائف ہاؤس، پلاٹ نمبر۔ 112، 8th ایسٹ اسٹریٹ

فیئر، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان

کامیاب مستقبل درخواست فارم

نام (Name)	
قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC)	- -
موبائل نمبر (Mobile Number)	
تاریخ پیدائش (Date of Birth)	
برانچ کوڈ (Branch Code)	
جنس (Gender)	<input type="checkbox"/> مرد (Male) <input type="checkbox"/> خاتون (Female)
پیشہ (Occupation)	
اداشدہ کنٹریبوشن (Contribution Paid)	
یونٹس کی تعداد (Number of Units)	
خط و کتابت کا پتہ (Mailing Address)	
بیمہ پیشہ کی نام (Name of Beneficiary)	
بیمہ پیشہ کی سے رشتہ (Relationship with Beneficiary)	